



پی سی بی کا کیوریٹرز اور گراؤنڈ اسٹاف سے متعلق بیان

لاہور، 3 دسمبر 2019ء:

پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابقہ ریجنل ایسوسی ایشنز میں کام کرنے والے گراؤنڈ اسٹاف کو مزید دو ماہ کا کنٹریکٹ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 19 اکتوبر سے شروع ہونے والے نئے کنٹریکٹ کی معیاد 19 دسمبر 2019 کو ختم ہوگئی۔

اس سے قبل بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے 16 ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشنز کے ماتحت گراؤنڈ اسٹاف کو دو ماہ کنٹریکٹ جاری کیا تھا جس کی معیاد 19 اگست 2019 کو شروع ہوئی تھی۔

پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس حوالے سے بیشتر گراؤنڈ اسٹاف سے رابطہ کر کے انہیں نئے کنٹریکٹ سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ تمام اسٹاف کی تنخواہیں جلد ان کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دی جائیں گی۔

دو ہزار دس میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیوریٹرز کو براہ راست تنخواہوں کی ادائیگی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاہم اس میں تاخیر کی شکایات موصول ہوئی تھیں۔

اس دوران پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈومیسٹک کرکٹ آپریشنز کی تحقیقات کے بعد یہ امر سامنے آیا کہ پی سی بی کے ماتحت 63 گراؤنڈز میں بدانتظامی اور فنڈز کا غلط استعمال کیا گیا۔

تحقیقات کے دوران یہ انکشاف بھی ہوا کہ 27 گراؤنڈز کی حالت سازگار نہیں اور نہ ہی وہاں کرکٹ میچ کا انعقاد کیا جاسکتا ہے جبکہ دیگر 36 گراؤنڈز بھی پی سی بی کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ اس دوران ان گراؤنڈز میں گھوسٹ ملازمین کی بھرتیوں کا بھی انکشاف ہوا تھا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ نے 63 گراؤنڈز کی دیکھ بھال کے لیے 16 ریجنز کو گذشتہ پانچ سال میں 317 ملین روپے جاری کیے۔ جس کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہے:

آفس اسٹاف (2014-2019): 34,780,911 روپے
گراؤنڈ اسٹاف (2014-2019): 221,546,514 روپے
سامان (2015-2019): 36,264,019 روپے
دفتری اخراجات (2015-2019): 24,760,076 روپے
ٹوٹل: 317,350,620 روپے

پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے آئین کے مطابق 16 ریجنل ایسوسی ایشنز اب 6 کرکٹ ایسوسی ایشنز میں ضم ہو چکی ہیں۔ نئے آئین کے تحت کرکٹ ایسوسی ایشنز ہی اپنے دائرہ اختیار میں کرکٹ کی سرگرمیوں کی ذمہ دار ہوں گی۔ جس کے باعث 19 دسمبر 2019 کے بعد گراؤنڈ اسٹاف کے مستقبل کا فیصلہ کرکٹ ایسوسی ایشنز کریں گی لہذا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب گراؤنڈ اسٹاف سے متعلق مزید کوئی اخراجات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

اس سلسلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ گراؤنڈز کرکٹ ایسوسی ایشنز کے حوالے کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ یہ گراؤنڈز متعلقہ کرکٹ ایسوسی ایشنز کے ہوم وینیوز ہوں گے لہذا ان گراؤنڈز کے انتظام اور دیگر تمام معاملات کی ذمہ داری کرکٹ ایسوسی ایشنز کی ہوگی۔

تمام گراؤنڈز مالکان جلد از جلد پاکستان کرکٹ بورڈ سے رابطہ کر لیں تاکہ انہیں مستقبل کے حوالے سے آگاہ کیا جاسکے۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral

series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk ●
@therealpcb ●
@PakistanCricketBoard ●
@PakistanCricketOfficial ●
@therealpcb ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4